

India-Germany Leaders' Video-Teleconference

January 06, 2021

بھارت جرمن رہنماؤں کی ویڈیو ٹیلی کانفرنس

06 جنوری، 2021

نئی دہلی، 06 جنوری، 2021 / وزیراعظم جناب نریندر مودی نے اپنی جرمن ہم منصب وفاقی چانسلر ڈاکٹر انگیلا مرکیل کے ساتھ آج ویڈیو ٹیلی کانفرنس منعقد کی۔

وزیراعظم نے یورپی اور عالمی سطح پر مستحکم اور مضبوط قیادت فراہم کرنے میں چانسلر مرکیل کے ایک قداور رول کو سراہا اور بھارت - جرمنی دفاعی شراکت داری کی ترقی میں رہنمائی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔

دونوں رہنماؤں نے کووڈ - 19 عالمی وبا کی روک تھام کے لیے کارروائی، دوطرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی معاملات خاص طور پر بھارت یونین تعلقات سمیت باہمی اہمیت کے کلیدی معاملات پر بات چیت کی۔

وزیراعظم نے ویکسین کی تیاری کے بارے میں بھارت میں تازہ واقعات پر چانسلر مرکیل کو واقف کرایا اور انہیں دنیا کے فائدے کے لیے بھارت کی صلاحیت کو استعمال کرنے کے اس کے عزم کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے جرمنی اور دیگر یورپی ملکوں میں انفیکشن کی تازہ لہر پر جلد قابو پانے کی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

وزیراعظم نے بین الاقوامی شمسی اتحاد آئی ایس اے میں شامل ہونے کے جرمنی کے فیصلے کا خیرمقدم کیا اور قدرتی آفات کے مزاحم، بنیادی ڈھانچے کے اتحاد سی ڈی آر آئی کے پلیٹ فارم کے تحت جرمنی کے ساتھ تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے خواہش کا اظہار کیا۔

اس سال بھارت اور جرمنی کے درمیان دو طرفہ تعلقات قائم ہونے کے 70 سال پورے ہونے اور دفاعی اشتراک کے 20 سال مکمل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے 2021 میں جلد ہی چھٹے بین حکومتی صلاح مشورے کے انعقاد اور اس کے لیے ایک ایجنڈا طے کرنے سے اتفاق کیا۔

نئی دہلی

06 جنوری، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release